



سوال

(724) جوتا کھڑے ہو کر نہیں پہننا چاہیے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حدیث شریف میں ہے جوتا کھڑے ہو کر نہیں پہننا چاہیے بعض حضرات تاویلین کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی پہننا جا سکتا ہے کیا کھڑے ہو کر بھی پہننے کی دلیل ہے؟ محمد یعقوب ہری پور

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سنن ابن ماجہ میں ابوہریرہ اور ابن عمر رضوان اللہ علیہما اجمعین سے حدیثیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے رہی تاویلوں والی بات تو جس تاویل کی کوئی دلیل موجود ہو تو وہ درست سمجھ لیں تا حال مجھے تو ان تاویلات میں سے کسی تاویل کی کوئی دلیل نہیں ملی۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 01 ص 506

محدث فتویٰ